

خ	ث	ث	ج	د	ذ
ز	س	ش	ض	ض	ط
ظ	ف	ق	ك	ا	ه
	و	ه	ا		

تختی نمبر ۸ مدہ ولین

ہدایات حروف مدہ 'ا' و 'ی' یہ تینوں حروف مدہ کہلاتے ہیں اگر الف سے پہلے زیر ہو تو (الف مدہ) اور و ساکن سے پہلے پیش ہو تو (واو مدہ) ی ساکن سے پہلے زیر ہو تو (یائے مدہ) یہ حروف ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں۔ جسے مد اصلی کہتے ہیں جیسے **بَا بُوَا بِنِ** اور ان حروف مدہ کے بعد اگر سبب مد ہمزہ اور سکون (اصلی) یا بوجہ وقف ہو تو لمبی مد ہوگی جسے مد فرعی کہتے ہیں **تنبیہ** جزم کا دوسرا نام سکون ہے جس حرف پر سکون ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔

بَا	بُوَا	بِنِ	تَا	تُوَا	تِنِ
ثَا	ثُوَا	ثِنِ	حَا	حُوَا	حِنِ
خَا	خُوَا	خِنِ	رَا	رُوَا	رِنِ

سبز حروف کو موٹا کریں باقی تمام رنگوں کے حروف باریک پڑھیں